

# Psa

## Chapter 107

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1    הָרוּ    לַיהוָה    כִּי-    טוֹב    כִּי    לְעוֹלָם    חַסְדּוֹ:  
شکر-کرو    یہوواہ-کا    کیونکہ    بھلا-ہے    کیونکہ    ہمیشہ-رہے-گی    اُس-کی-شفقت  
H3034    H3068    H5769

ہے۔ ابدی شفقت کی اُس اور ہے، بھلا وہ کیونکہ کرو، شکر کا رب

2    יֵאמְרוּ    נְאֻלֵּי    יְהוָה    אֲשֶׁר    נָאֲלָם    מִיָּד-    צָר:  
کہیں    چھڑائے-ہوئے    یہوواہ-کے    جنہیں    چھڑایا-اُس-نے    ہاتھ-سے    دشمن-کے  
H0559    H3068    H3027

کہیں۔ یہ سب بے چھڑایا سے قبضے کے دشمن کر دے عوضانہ نے اُس کو جن یافتہ نجات کے رب

3    וּמִאֲרָצוֹת    קְבָכָם    מִמִּזְרָח    וּמִמְעַרְב    מִצְפוֹן    וּמִיָּם:  
اور-سرزمینوں-سے    اکٹھا-کیا-انہیں    مشرق-سے    اور-مغرب-سے    شمال-سے    اور-جنوب-سے  
H0776    H6908    H4217    H4628    H6828    H3220

ہے۔ کیا اکٹھا سے ممالک دیگر تک جنوب سے شمال اور تک مغرب سے مشرق انہیں نے اُس

4    וְעָו    בְּמִדְבָּר    בְּיַשִּׁימוֹן    דֶּרֶךְ    עִיר    מוֹשֶׁב    לָא    מִצְאוּ:  
وہ-بھٹکے    بیابان-میں    ویرانی-میں    راہ    شہر    بسنے-کا    نہیں    پایا  
H8582    H3452    H1870    H4186    H3808    H4672

ملی۔ نہ آبادی بھی کہیں اور پھرے، مارے مارے پر راستے ویران کر بھول راستہ صحیح میں ریگستان بعض

5    רַעֲבִים    גַּם-    צִמְאִים    נֶפְשָׁם    בָּהֶם    הִתְעַטְּףָ:  
بھوکے    اور    پیاسے    اُن-کی-جان    اُن-میں    بیہوش-ہوتی-تھی  
H7457    H1571    H6771    H5315

گئی۔ بو نڈھال جان کی اُن مارے کے پیاس اور بھوک

6    וַיִּצְעֲקוּ    אֶל-    יְהוָה    בְּצָר    לָהֶם    מִמְצוֹקוֹתֵיהֶם    יִצְיָלָם:  
اور-انہوں-نے-پکارا    کو    یہوواہ    مصیبت-میں    اُن-کے-لیے    اُن-کی-تنگیوں-سے    بچایا-انہیں  
H6817    H0413    H3068    H1992    H4691    H5337

دیا۔ چھٹکارا سے پریشانیوں تمام کی اُن انہیں نے اُس اور پکارا، کو رب میں مصیبت اپنی نے انہوں تب

7    וַיְדַרְיָם    בְּדֶרֶךְ    יִשְׂרָאֵל    לָלֶכֶת    עִיר    מוֹשֶׁב:  
اور-چلایا-انہیں    راہ-پر    سیدھی    جانے-کے-لیے    کی-طرف    شہر    بسنے-کے  
H1869    H1870    H3477    H0413    H4186

تھے۔ سکتے رہ جہاں پہنچایا تک آبادی ایسی کر لا پر راہ صحیح انہیں نے اُس

8    יוֹדוּ    לַיהוָה    חַסְדּוֹ    אֲשֶׁר    אֲנִי    לְבַנִּי    אָדָם:  
وہ-شکر-کریں    یہوواہ-کا    اُس-کی-شفقت-کے-لیے    اور-اُس-کے-عجائبات-کے-لیے    بنی-آدم-کے-لیے    آدم-کے  
H3034    H3068    H6381    H0120

ہیں۔ کئے ظاہر پر انسان معجزے اپنے اور شفقت اپنی نے اُس کہ کریں شکر کا رب وہ

9    כִּי-    הַשְּׂבִיעַ    נַפְשׁ    שִׁקְקָה    וַנִּפֶּשׁ    רַעֲבָה    מִלֶּא-    טוֹב:  
کیونکہ    سیر-کیا    جان-کو    پیاسی    اور-جان-کو    بھوکی    بھر-دیا    بھلائی-سے  
H7646    H5315    H8264    H5315    H7457    H4390

بے-کرتا سیر سے چیزوں اچھی کی کثرت کو جان بھوکی اور کرتا آسودہ کو جان پیاسی وہ کیونکہ

|    |                         |                            |                                     |                       |                       |                           |
|----|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 10 | יְשִׁבֵהוּ<br>بیٹھے-تھے | חֲשִׁירֵהוּ<br>اندھیرے-میں | וְצִלְמוֹתָי<br>اور-موت-کے-سایے-میں | אֶסְרִי<br>قیدی       | עָנִי<br>مصیبت-کے     | וּבְרָזָל:<br>اور-لوہے-کے |
|    | <a href="#">H3427</a>   | <a href="#">H2822</a>      | <a href="#">H6757</a>               | <a href="#">H0615</a> | <a href="#">H6040</a> | <a href="#">H1270</a>     |

تھے، بستے میں تاریکی گہری اور اندھیرے ہوئے جکڑے میں مصیبت اور زنجیروں دوسرے

|    |                 |                                |                          |                       |                          |                           |                       |
|----|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 11 | כִּי-<br>کیونکہ | הַמָּרוֹץ<br>انہوں-نے-بغاوت-کی | אֶמְרֵי-<br>کلام-کے-خلاف | אֱלֹהֵי<br>خدا-کے     | נִשְׁעַת<br>اور-مشورہ-کو | עֲלִיזוֹן<br>حق-تعالیٰ-کے | נֶאֱצָו:<br>حقیر-جانا |
|    |                 | <a href="#">H4784</a>          | <a href="#">H0561</a>    | <a href="#">H0410</a> | <a href="#">H6098</a>    |                           | <a href="#">H5006</a> |

تھا۔ جانا حقیر فیصلہ کا تعالیٰ اللہ نے انہوں تھے، ہوئے سرکش سے فرمانوں کے اللہ وہ کیونکہ

|    |                          |                       |                           |                          |                       |
|----|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 12 | וַיִּכְנַע<br>اور-جھکایا | בְּעַמְלָה<br>محنت-سے | לְבָבִים<br>ان-کے-دلوں-کو | וְאֵינִי<br>اور-نہیں-تھا | עֲזָרָה:<br>مددگار    |
|    | <a href="#">H3665</a>    | <a href="#">H5999</a> | <a href="#">H3782</a>     | <a href="#">H0369</a>    | <a href="#">H5826</a> |

تھا رہا نہ کوئی والا کرنے مدد اور گئے گر کر کھا ٹھوکر وہ جب دیا۔ کر پست کے کر مبتلا میں تکلیف کو دل کے ان نے اللہ لئے اس

|    |                                    |                       |                       |                     |                       |                                    |                             |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 13 | וַיִּזְעַקוּ<br>اور-انہوں-نے-پکارا | אֶל-<br>کو            | יְהוָה<br>یہوواہ      | בְּצָר<br>مصیبت-میں | לָהֶם<br>ان-کے-لیے    | מִמְצַקוֹתֵיהֶם<br>ان-کی-تنگیوں-سے | יּוֹשִׁיעֵם:<br>بجایا-انہیں |
|    | <a href="#">H2199</a>              | <a href="#">H0413</a> | <a href="#">H3068</a> |                     | <a href="#">H1992</a> | <a href="#">H4691</a>              | <a href="#">H3467</a>       |

دیا۔ چھٹکارا سے پریشانیوں تمام کی انہیں نے اُس اور پکارا، کو رب میں مصیبت اپنی نے انہوں تو

|    |                           |                          |                                    |                                       |                       |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 14 | יּוֹצִיאֵם<br>نکالا-انہیں | מִחֲשָׁדָה<br>اندھیرے-سے | וְצִלְמוֹתָי<br>اور-موت-کے-سایے-سے | וּמוֹסְרוֹתֵיהֶם<br>اور-ان-کی-زنجیریں | יִנְתַּק:<br>توڑ-دیں  |
|    | <a href="#">H3318</a>     | <a href="#">H2822</a>    | <a href="#">H6757</a>              | <a href="#">H4147</a>                 | <a href="#">H5423</a> |

ڈالیں۔ توڑ زنجیریں کی ان اور لایا نکال سے تاریکی گہری اور اندھیرے انہیں وہ

|    |                        |                       |                               |  |                           |                       |
|----|------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|
| 15 | יִזְרֹן<br>وہ-شکر-کریں | לַיהוָה<br>یہوواہ-کا  | חֲסִדוֹ<br>اُس-کی-شفقت-کے-لیے | וְנִפְלְאוֹתָיו<br>اور-اُس-کے-عجائبات-کے-لیے | לְבָנִי<br>بنی-آدم-کے-لیے | אֲדָם:<br>آدم-کے      |
|    | <a href="#">H3034</a>  | <a href="#">H3068</a> |                               | <a href="#">H6381</a>                        |                           | <a href="#">H0120</a> |

ہیں۔ کئے ظاہر پر انسان معجزے اپنے اور شفقت اپنی نے اُس کہ کریں شکر کا رب وہ

|    |                 |                       |                     |                         |                       |                       |
|----|-----------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | כִּי-<br>کیونکہ | שָׁבַר<br>توڑ-دیے     | דְּרוֹאֵה<br>دروازے | וּבְרִיחֵי<br>اور-بینزے | בְּרָזָל<br>لوہے-کے   | גִּדְעָה:<br>کاٹ-ڈالے |
|    |                 | <a href="#">H7665</a> |                     | <a href="#">H1280</a>   | <a href="#">H1270</a> | <a href="#">H1438</a> |

ہیں۔ دیئے کر ٹکڑے ٹکڑے کنڈے کے لوہے ڈالے، توڑ دروازے کے پیتل نے اُس کیونکہ

|    |                       |                           |                             |  |                           |
|----|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 17 | אֲוִלִים<br>بے-وقوف   | מִדְרָךְ<br>راہ-کی-وجہ-سے | פְּשָׁעִים<br>اپنی-بغاوت-کی | וּמַעֲזוֹתֵיהֶם<br>اور-اپنی-بدکاریوں-کی-وجہ-سے | יִתְעַוּ:<br>ڈکھ-پاتے-تھے |
|    | <a href="#">H0191</a> | <a href="#">H1870</a>     | <a href="#">H6588</a>       | <a href="#">H5771</a>                          |                           |

ہوئے۔ مبتلا میں پریشانیوں باعث کے گناہوں اور چلن چال سرکش اپنے وہ تھے، احمق لوگ کچھ

|    |             |                       |                          |                       |                              |                       |                       |                       |
|----|-------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 | כָּל-<br>ہر | אֲכָל<br>کھانے-سے     | תְּחִיב<br>نفرت-کرتی-تھی | נִפְשָׁם<br>ان-کی-جان | וַיִּזְעַקוּ<br>اور-پہنچ-گئے | עַד-<br>تک            | שַׁעֲרֵי<br>دروازوں   | מֹות:<br>موت-کے       |
|    |             | <a href="#">H0400</a> | <a href="#">H8581</a>    | <a href="#">H5315</a> | <a href="#">H5060</a>        | <a href="#">H5704</a> | <a href="#">H8179</a> | <a href="#">H4194</a> |

پہنچے۔ قریب کے دروازوں کے موت وہ اور لگی، آنے گھن سے خوراک ہر انہیں

|    |                                    |                       |                       |                     |                       |                                    |                             |
|----|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 19 | וַיִּזְעַקוּ<br>اور-انہوں-نے-پکارا | אֶל-<br>کو            | יְהוָה<br>یہوواہ      | בְּצָר<br>مصیبت-میں | לָהֶם<br>ان-کے-لیے    | מִמְצַקוֹתֵיהֶם<br>ان-کی-تنگیوں-سے | יּוֹשִׁיעֵם:<br>بجایا-انہیں |
|    | <a href="#">H2199</a>              | <a href="#">H0413</a> | <a href="#">H3068</a> |                     | <a href="#">H1992</a> | <a href="#">H4691</a>              | <a href="#">H3467</a>       |

دیا۔ چھٹکارا سے پریشانیوں تمام کی ان انہیں نے اُس اور پکارا، کو رب میں مصیبت اپنی نے انہوں تب

|    |                       |                       |                       |                       |                    |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---|
| 20 | יְשַׁלַח              | בְּרָבוֹ              | וַיִּרְפְּאֵם         | אֶיִמָּלֵט            | מִנְשַׁחֵי תוֹתָם: | ז |
|    | بھیجا                 | اپنا-کلام             | اور-شفا-دی-انہیں      | اور-بچایا             | ان-کے-گڑھوں-سے     | — |
|    | <a href="#">H1697</a> | <a href="#">H7495</a> | <a href="#">H4422</a> | <a href="#">H7825</a> |                    |   |

بچایا۔ سے گڑھے کے موت انہیں اور دی شفا انہیں کر بھیج کلام اپنا نے اُس

|    |                       |                       |                    |                           |                |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---|
| 21 | יִזְרֶה               | לִיהוָה               | חֶסְדָּו           | אֲנִי                     | לְבַנִּי       | אֲדָם:                | ז |
|    | وہ-شکر-کریں           | یہوواہ-کا             | اُس-کی-شفقت-کے-لیے | اور-اُس-کے-عجائبات-کے-لیے | بنی-آدم-کے-لیے | آدم-کے                | — |
|    | <a href="#">H3034</a> | <a href="#">H3068</a> |                    | <a href="#">H6381</a>     |                | <a href="#">H0120</a> |   |

ہیں۔ کئے ظاہر پر انسان معجزے اور شفقت اپنی نے اُس کہ کریں شکر کا رب وہ

|    |                          |                       |                       |               |                       |                       |   |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 22 | וַיִּזְכְּרוּ            | זְבָחַי               | תּוֹדָה               | וַיְסַפְּרוּ  | מַעֲשָׂיו             | בְּרִנָּה:            | ז |
|    | اور-وہ-قربانیاں-گزارائیں | قربانیاں              | شکر-گزاری-کی          | اور-بیان-کریں | اُس-کے-کاموں-کو       | خوشی-سے               | — |
|    | <a href="#">H2076</a>    | <a href="#">H2077</a> | <a href="#">H8426</a> |               | <a href="#">H4639</a> | <a href="#">H7440</a> |   |

کریں۔ چرچا کا کاموں کے اُس کر لگا نعرے کے خوشی اور کریں پیش قربانیاں کی شکرگزارى وہ

|    |                       |                       |                       |           |                       |                       |         |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------|---|
| 23 | יִזְכְּרוּ            | הַיָּם                | בְּאֵיזוֹת            | עֲשֵׂי    | מְלֶאכֶה              | בְּמַיִם              | רְבִים: | ז |
|    | اُترنے-والے           | سمندر-میں             | جہازوں-میں            | کرنے-والے | کاروبار               | پانیوں-میں            | بہت-سے  | — |
|    | <a href="#">H3381</a> | <a href="#">H3220</a> | <a href="#">H0591</a> |           | <a href="#">H4399</a> | <a href="#">H4325</a> |         |   |

پہنچے۔ تک علاقوں دُور دراز کرتے کرتے سفر پر سمندر میں سلسلے کے تجارت اور گئے بیٹھ میں جہاز بحری بعض

|    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 24 | הִמְזָה               | רָאוּ                 | מַעֲשָׂיו             | יְהוָה                | אֲנִי                 | בְּמַצּוֹתָ:          | ז |
|    | انہوں-نے              | دیکھے                 | کام                   | یہوواہ-کے             | اور-اُس-کے-عجائبات    | گہرائی-میں            | — |
|    | <a href="#">H1992</a> | <a href="#">H7200</a> | <a href="#">H4639</a> | <a href="#">H3068</a> | <a href="#">H6381</a> | <a href="#">H4688</a> |   |

ہیں۔ دیکھے معجزے کے اُس میں گہرائیوں کی سمندر اور کام عظیم کے رب نے انہوں

|    |                       |                       |                       |         |               |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------------------|---|
| 25 | וַיֹּאמֶר             | וַיִּעֲמֵד            | רוּחַ                 | סְעָרָה | וַתְרוֹמֵם    | נְלִיו:               | ז |
|    | اور-کہا-اُس-نے        | اور-اُٹھائی           | ہوا                   | طوفانی  | اور-اونچی-کیں | اُس-کی-لہریں          | — |
|    | <a href="#">H0559</a> | <a href="#">H5975</a> | <a href="#">H7307</a> |         |               | <a href="#">H1530</a> |   |

لائی۔ پر بلندیوں موجیں کی سمندر جو چلی آندھی تو دیا حکم نے رب کیونکہ

|    |                       |                       |                       |                       |                       |           |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|
| 26 | יַעֲלוּ               | שָׁמַיִם              | יִרְדּוּ              | תְּהוֹמוֹת            | נְפֹשׁ                | בְּרָעָה  | תְּתַמוֹנְנָ:         | ז |
|    | وہ-چڑھتے-ہیں          | آسمان-تک              | اُترتے-ہیں            | گہرائیوں-میں          | ان-کی-جان             | بُرائی-سے | پگھلتی-تھی            | — |
|    | <a href="#">H5927</a> | <a href="#">H8064</a> | <a href="#">H3381</a> | <a href="#">H8415</a> | <a href="#">H5315</a> |           | <a href="#">H4127</a> |   |

گئی۔ دے جواب ہمت کی ملاحوں باعث کے پریشانی اُتریں۔ تک گہرائیوں اور چڑھیں تک آسمان وہ

|    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 27 | יִחַדְדוּ             | וַיִּדְוּ             | כְּשֹׁכֵר             | וְכָל-                | אֲחֻזָּתָם            | תְּתַבְּלַע:          | ז |
|    | وہ-ڈگمگاتے-تھے        | اور-لڑکھڑاتے-تھے      | شرابی-کی-طرح          | اور-ساری              | ان-کی-دانائی          | ضائع-ہو-جاتی-تھی      | — |
|    | <a href="#">H2287</a> | <a href="#">H5128</a> | <a href="#">H7910</a> | <a href="#">H3605</a> | <a href="#">H2451</a> | <a href="#">H1104</a> |   |

ہوئی۔ ثابت ناکام حکمت تمام کی ان رہے۔ ڈگمگاتے اور لڑکھڑاتے طرح کی آدمی ڈھت میں شراب وہ

|    |                       |                       |                       |           |                       |                       |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 28 | וַיִּצְעֲקוּ          | אֶל-                  | יְהוָה                | בְּצָר    | לָהֶם                 | וּמִמְצוֹקֵי תוֹתָם   | יִזְצִיאֵם:           | ז |
|    | اور-انہوں-نے-پکارا    | کو                    | یہوواہ                | مصیبت-میں | ان-کے-لیے             | اور-ان-کی-تنگیوں-سے   | نکالا-انہیں           | — |
|    | <a href="#">H6817</a> | <a href="#">H0413</a> | <a href="#">H3068</a> |           | <a href="#">H1992</a> | <a href="#">H4691</a> | <a href="#">H3318</a> |   |

دیا۔ چھٹکارا سے پریشانیوں تمام انہیں نے اُس اور پکارا، کو رب میں مصیبت اپنی نے انہوں تب

|    |           |          |                       |                       |                       |   |
|----|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 29 | יָקָם     | סְעָרָה  | לְדַמְמָה             | וַיִּחַשּׁוּ          | נְלִיָּהֶם:           | ז |
|    | خاموش-کیا | طوفان-کو | سکون-میں              | اور-خاموش-ہو-گئیں     | ان-کی-لہریں           | — |
|    |           |          | <a href="#">H1827</a> | <a href="#">H2814</a> | <a href="#">H1530</a> |   |

گئیں۔ ہو سکتا لہریں گئی، پھیل خاموشی اور دیا تھما کو سمندر نے اُس

|    |                       |        |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 | וְיִשְׁמְחוּ          | כִּי   | יִשְׁתְּקוּ           | וַיִּנְחֹם            | אֶל-                  | מִחוּז                | חֲפָצִים:             |
|    | اور-خوش-ہوئے          | کیونکہ | خاموش-ہو-گئیں         | اور-لے-گیا-انہیں      | کی-طرف                | بندرگاہ               | آن-کی-مرضی-کے         |
|    | <a href="#">H8055</a> |        | <a href="#">H8367</a> | <a href="#">H5148</a> | <a href="#">H0413</a> | <a href="#">H4231</a> | <a href="#">H2656</a> |

پہنچایا۔ تک مقصود منزل انہیں نے اللہ اور ہوئے، خوش کر دیکھ حالات پُرسکون مسافر

|    |                       |                       |                    |                           |                |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|
| 31 | יִזְדָּרוּ            | לִיהוָה               | חֶסְדָּו           | וַיִּנְפְּלוּ             | לְבָבֵי        | אָדָם:                |
|    | وہ-شکر-کریں           | یہوواہ-کا             | اُس-کی-شفقت-کے-لیے | اور-اُس-کے-عجائبات-کے-لیے | بنی-آدم-کے-لیے | آدم-کے                |
|    | <a href="#">H3034</a> | <a href="#">H3068</a> |                    | <a href="#">H6381</a>     |                | <a href="#">H0120</a> |

ہیں۔ کئے ظاہر پر انسان معجزے اپنے اور شفقت اپنی نے اُس کہ کریں شکر کا رب وہ

|    |                       |            |        |                       |                       |                   |
|----|-----------------------|------------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 32 | וְיִרְמְמוּהוּ        | בְּקִהְלָ- | עַם    | וּבְמִוָּשָׁב         | זְקֵנִים              | יְהִלְלוּהוּ:     |
|    | اور-سربلند-کریں-اُسے  | جماعت-میں  | قوم-کی | اور-مجلس-میں          | بزرگوں-کی             | تعریف-کریں-اُس-کی |
|    | <a href="#">H6951</a> |            |        | <a href="#">H4186</a> | <a href="#">H2205</a> |                   |

کریں۔ حمد کی اُس میں مجلس کی بزرگوں کریں، تعظیم کی اُس میں جماعت کی قوم وہ

|    |                       |           |            |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 33 | יִשֵּׁם               | נְהַרֹת   | לְמִדְבָּר | וּמִצְאֵי             | מַיִם                 | לְצִמְאֹן:            |
|    | بناتا-ہے              | دریاؤں-کو | بیابان     | اور-چشموں-کو          | پانی-کے               | پھیاں                 |
|    | <a href="#">H5104</a> |           |            | <a href="#">H4161</a> | <a href="#">H4325</a> | <a href="#">H6774</a> |

ہے۔ دیتا بدل میں زمین پھیاں کو چشموں اور میں ریگستان کو دریاؤں وہ ہر جگہوں کئی

|    |                       |                       |                       |           |                       |         |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 34 | אֶרֶץ                 | פְּרִי                | לְמִלְחָה             | מִרְעֵת   | זִשְׁבִי              | בְּהָ:  |
|    | زمین-کو               | پھلدار                | نمکین-زمین            | بُرائی-سے | بسنے-والوں-کی         | اُس-میں |
|    | <a href="#">H0776</a> | <a href="#">H6529</a> | <a href="#">H4420</a> |           | <a href="#">H3427</a> |         |

ہے۔ دیتا بدل میں بیابان کے کلر کو زمین زرخیز وہ کر دیکھ بُرائی کی باشندوں

|    |          |                       |          |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|----------|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 35 | יִשֵּׁם  | מִדְבָּר              | לְאֵנָם- | מַיִם                 | וְאֶרֶץ               | צִיָּה                | לְמִצְאֵי             | מַיִם:                |
|    | بناتا-ہے | بیابان-کو             | تالاب    | پانی-کا               | اور-زمین-کو           | خشک                   | چشموں                 | پانی-کے               |
|    |          | <a href="#">H0098</a> |          | <a href="#">H4325</a> | <a href="#">H0776</a> | <a href="#">H6723</a> | <a href="#">H4161</a> | <a href="#">H4325</a> |

ہے۔ دیتا بدل میں چشموں کو زمین پھیاں اور میں جھیل کو ریگستان وہ ہر جگہوں دوسری

|    |                       |                       |                       |                       |      |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 36 | וַיִּזְשָׁב           | נֶשֶׁם                | רְעֵבִים              | וַיִּכְוֲנוּ          | עִיר | מוֹשָׁב:              |
|    | اور-بسایا             | وہاں                  | بھوکوں-کو             | اور-انہوں-نے-قائم-کیا | شہر  | بسنے-کا               |
|    | <a href="#">H3427</a> | <a href="#">H8033</a> | <a href="#">H7457</a> |                       |      | <a href="#">H4186</a> |

کریں۔ قائم آبادیاں تاکہ ہے دیتا بسا کو بھوکوں وہ وہاں

|    |                       |         |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 37 | וַיִּזְרְעוּ          | שָׂדוֹת | וַיִּטְעוּ            | כַּרְמִים             | וַיַּעֲשׂוּ           | פְּרִי                | תְבוּאָה:             |
|    | اور-بوئے-انہوں-نے     | کھیت    | اور-لگائے-انہوں-نے    | انگور-کے-باغ          | اور-پیدا-کیے-انہوں-نے | پھل                   | فصل-کے                |
|    | <a href="#">H2232</a> |         | <a href="#">H5193</a> | <a href="#">H3754</a> |                       | <a href="#">H6529</a> | <a href="#">H8393</a> |

ہیں۔ لاتے پھل خوب جو ہیں لگاتے باغ کے انگور اور کھیت وہ تب

|    |                       |                 |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 38 | וַיְבָרְכֵם           | וַיְרִבּוּ      | מְאֹד                 | וְדָבָר               | לָא                   | יִמְעִיט:             |
|    | اور-برکت-دی-انہیں     | اور-بہت-بڑھ-گئے | بہت                   | اور-ان-کے-موبیشیوں-کو | نہیں                  | کم-نہیں-ہوئے-دیتا     |
|    | <a href="#">H1288</a> |                 | <a href="#">H3966</a> | <a href="#">H0929</a> | <a href="#">H3808</a> | <a href="#">H4591</a> |

دیتا۔ نہیں ہونے کم بھی کو ربوڑوں کے اُن وہ ہے۔ جاتی بڑھ بہت تعداد کی اُن تو ہے دیتا برکت انہیں اللہ

|    |                       |                       |                       |           |                       |   |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---|
| 39 | וַיִּמְעֲטוּ          | וַיִּשְׁחָחוּ         | מִעֲצָר               | רָעָה     | וַיִּגְזְזוּ:         | ז |
|    | اور-کم-ہوتے-ہیں       | اور-چھک-جاتے-ہیں      | ظلم-سے                | بُرائی-کے | اور-غم-کے             | — |
|    | <a href="#">H4591</a> | <a href="#">H7817</a> | <a href="#">H6115</a> |           | <a href="#">H3015</a> |   |

بیں جاتے دب میں خاک تلے بوجھ کے ڈکھ اور مصیبت وہ اور جاتی ہو کم تعداد کی اُن کبھی جب

|    |                       |                       |      |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 40 | שָׁפָר:               | בּוֹז                 | עַל- | בְּרִיבִים            | יִתְנֶם               | בְּתוֹחוֹ             | לֹא-                  | קָרָד:                |
|    | وہ-ڈالتا-بے           | حقارت                 | پر   | سرداروں-کو            | اور-بھٹکاتا-بے-انہیں  | بے-رابا-میں           | بغیر                  | راہ-کے                |
|    | <a href="#">H8210</a> | <a href="#">H0937</a> |      | <a href="#">H5081</a> | <a href="#">H8582</a> | <a href="#">H8414</a> | <a href="#">H3808</a> | <a href="#">H1870</a> |

بے-دیتا پھرنے دُور سے راستے صحیح کر بھگا میں ریگستان اُنہیں اور دیتا اُنڈیل حقارت اپنی پر شرفا وہ تو

|    |                       |                       |                       |              |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 41 | וְשָׁב                | אֲבִוֹן               | מַעֲוִי               | וַיִּשֶׁם    | כִּצְאוֹן             | מִשְׁפָּחוֹת:         |
|    | اور-بلند-کرتا-بے      | غریب-کو               | مصیبت-سے              | اور-بناتا-بے | بھیڑوں-کی-طرح         | اُن-کے-خاندانوں-کو    |
|    | <a href="#">H7682</a> | <a href="#">H0034</a> | <a href="#">H6040</a> |              | <a href="#">H6629</a> | <a href="#">H4940</a> |

بے-دیتا بڑھا طرح کی بھیڑیکریوں کو خاندانوں کے اُس اور کرتا سرفراز کر نکال سے دلدل کی مصیبت وہ کو محتاج لیکن

|    |                       |                       |                       |                       |        |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 42 | יִרְאוּ               | יִשְׁרִים             | וְיִשְׁמְחוּ          | וְכָל-                | עוֹלָה | קַפְצָה               | פִּיהַ:               |
|    | دیکھیں-گے             | سیدھے-لوگ             | اور-خوش-ہوں-گے        | اور-ساری              | بدکاری | بند-ہو-گیا            | اپنا-منہ              |
|    | <a href="#">H7200</a> | <a href="#">H3477</a> | <a href="#">H8055</a> | <a href="#">H3605</a> |        | <a href="#">H7092</a> | <a href="#">H6310</a> |

گا-جائے کیا بند منہ کا بے انصاف لیکن گے، ہوں خوش کر دیکھ یہ والے چلنے پر راہ سیدھی

|    |                       |                       |                        |                       |                       |          |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| 43 | מִי-                  | חָכָם                 | וְיִשְׁמְרוּ-          | אֵלֶּה                | וְיִתְבּוֹנְנוּ       | חֶסְדִּי | יְהוָה:               |
|    | جو-کوئی               | دانا-ہو               | وہ-ان-باتوں-پر-غور-کرے | ان-باتوں-پر           | اور-سمجھیں            | شفقتیں   | یہوواہ-کی             |
|    | <a href="#">H4310</a> | <a href="#">H2450</a> | <a href="#">H8104</a>  | <a href="#">H0428</a> | <a href="#">H0995</a> |          | <a href="#">H3068</a> |

کرے-غور پر مہربانیوں کی رب وہ دے، دھیان پر اِس وہ بے؟ مند دانش کون